

سندھ ایکٹ نمبر XLIX مجریہ 2013
SINDH ACT NO. XLIX OF 2013
لاڑکانہ ڈولپمنٹ اتھارٹی (تجدید اور ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۳
THE LARKANA DEVELOPMENT
AUTHORITY (REVIVAL AND AMENDING)
ACT, 2013
فہرست (CONTENTS)

تمہید (Preamble)
دفعات (Sections)
1. مختصر عنوان اور شروعات
Short title and commencement
۲. ۱۹۹۴ کے سندھ ایکٹ نمبر XXI کی تجدید
Revival of Sindh Act No. XXI of 1994
۳. ۱۹۹۴ کے سندھ ایکٹ XXI کی دفعہ ۲ کی ترمیم
Amendment of section 2 of Sindh Act No. XXI of 1994
۴. ۱۹۹۴ کے سندھ ایکٹ XXI کی دفعہ ۴ کی ترمیم
Amendment of Section 4 of Sindh Act No. XXI. 1994
۵. ۱۹۹۴ کے سندھ ایکٹ X کی دفعہ ۸ کی ترمیم
Amendment of section 8 of Sindh Act No. XXI of 1994
۶. ۲۰۰۹ کے سندھ ایکٹ VIII کی منسوخی
Repeal of Sindh Act No. VIII of 2009
۷. محفوظ بنانا
Saving

سندھ ایکٹ نمبر XLIX مجریہ 2013
SINDH ACT NO. XLIX OF 2013
لاڑکانہ ڈولپمنٹ اتھارٹی (تجدید اور ترمیم)
ایکٹ، ۲۰۱۳

**THE LARKANA
DEVELOPMENT AUTHORITY
(REVIVAL AND AMENDING)
ACT, 2013**

(Preamble) تمہید

[۱ نومبر ۲۰۱۳]

ایکٹ جس کے ذریعے لاڑکانہ ڈولپمنٹ اتھارٹی سے منسلک قانون کی تجدید اور ترمیم کی جائی گی۔ جیسا کہ ہاؤسنگ انڈسٹری کو فروغ اور ترقی کو فروغ دینے اور صوبے کی عوام کو رہائش فراہم کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ لاڑکانہ ڈولپمنٹ ایکٹ، ۱۹۹۴ کے اس مندرجہ ذیل طرح تجدید اور ترمیم کی جائی گی۔

مختصر عنوان اور
شروعات
Short title and
commencement

۱۹۹۴ کے سندھ ایکٹ
نمبر XXI کی تجدید
Revival of Sindh
Act No. XXI of
1994

اس کو اس طرح بنا کے عمل میں لایا جائے گا۔
1. (1) اس ایکٹ کو لاڑکانہ ڈولپمنٹ اتھارٹی (تجدید اور ترمیم)، ایکٹ، ۲۰۱۳ کہا جائے گا۔
(۲) یہ فوری نافذ العمل ہوگا۔

۱۹۹۴ کے سندھ ایکٹ
XXI کی دفعہ ۲ کی
ترمیم
Amendment of
section 2 of Sindh
Act No. XXI of
1994

۲. لاڑکانہ ڈولپمنٹ اتھارٹی، ایکٹ ۱۹۹۳، جولائی ۲۰۰۲ کے پہلے دن سے اس طرح تجدید و ترمیم سمجھا جائے گا جیسا وہ کبھی بھی تبدیل یا تجدید نہیں کیا ہے اور اس کے بعد اس کو وہ ہی ایکٹ کہا جائے گا:

۱۹۹۴ کے سندھ ایکٹ
XXI کی دفعہ ۴ کی
ترمیم
Amendment of
Section 4 of Sindh
Act No. XXI. 1994

۳. ایکٹ کی دفعہ ۲ کی شق (e) کے بعد یہ نئی شق شامل کی جائے گی۔
” (ee) ”کنسالیڈیشن آف لینڈ“ سے مراد ہے اسکیم کے مقاصد کے لئے اسکیم کے پلاٹوں کی ادلہ بدلی یا کسی اور طریقے سے مطابقت میں لے آنا۔

۴. دفعہ ۴ کی ذیلی دفعہ (۱) کے لئے مندرجہ ذیل نعم البدل ہوگا:

” (1) اتھارٹی کی تشکیل: اتھارٹی مشتمل ہوگی:

چیئرمین۔	(a) لوکل گورنمنٹ، پبلک ہیلتھ انجینیئرنگ، رورل ڈولپمنٹ ہاؤسنگ، سندھ کا وزیر
میمبر	(b) سرکار کے طرف سے نامزد کئے گئے صوبائی اسمبلی کا ایک مقامی میمبر
میمبر	(c) لوکل گورنمنٹ، پبلک انجینیئرنگ، رورل ڈولپمنٹ ہاؤسنگ، سندھ کا سیکریٹری
میمبر	(d) لاڑکانہ کا کمشنر
میمبر	(e) پبلک ہیلتھ انجینیئرنگ سکھر کا چیف انجینیئر
میمبر / سیکریٹری	(f) لاڑکانہ ڈولپمنٹ اتھارٹی کا ڈائریکٹر جنرل
میمبر	(g) سرکار کے طرف سے نامزد کئے گئے دو افراد ایک ٹیکنو کریٹ اور ایک سول سوسائٹی

۱۹۹۴ کے سندھ ایکٹ X کی دفعہ ۸ کی ترمیم
Amendment of section 8 of Sindh Act No. XXI of 1994

۲۰۰۹ کے سندھ ایکٹ VIII کی منسوخی
Repeal of Sindh Act No. VIII of 2009

محفوظ بنانا
Saving

۵. اس ایکٹ کی دفعہ ۹ کی ذیلی دفعہ (I) کی شق (iii) کے بعد یہ نئی شق شامل کی جائے گی:
” (iii-a) کسی زمین کو اسی طرح مربوط کرنا جیسا قواعد میں بیان کیا گیا ہو۔“

۶. لاڑکانہ ڈولپمنٹ اتھارٹی (تجدید اور ترمیم) ایکٹ ۲۰۰۹ (سندھ ایکٹ VIII، ۲۰۰۹) کو ختم کیا جا رہا ہے۔

۷. ۲۰۰۲ کے جولائی کی پہلی تاریخ اور اس ایکٹ کی نافذ ہونے (دونوں دن کے ساتھ) کئے گئے سارے احکام، کی گئی کاروائیاں، اٹھائے گئے اقدام پر وہ کسی کورٹ کے خلاف نہ ہو تو پھر سمجھا جائے گا کہ وہ لاڑکانہ ڈولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ، ۱۹۹۳ کے مطابق درست اقدام اٹھائے گئے ہے اور اس پر کسی کورٹ یا فورم پر کسی بھی بنیاد پر سوال نہیں اٹھایا جائے گا۔

نوٹ: ایکٹ کا مذکورہ ترجمہ عام افراد کی واقفیت کے لیے ہے، جو کورٹ میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔